

**CH- NO. 1****CHEMISTRY****(Class 9<sup>th</sup>)-2020****Paper : (Objective type)****Time Allowed:- 15 Minutes****Maximum Marks:- 12**

**Note:-** Write answers to the questions on the objective answer sheet provided. Four possible answers A,B,C and D to each question are given. Which answer you consider correct, fill the circle in front of A,B,C or D with Marker or Pen ink to each question on the answer sheet provided.

Q. No.	QUESTIONS	(A)	(B)	(C)	(D)
1.	Industrial chemistry deals with the manufacturing of compounds.	In the laboratory	On the micro scale	On commercial scale	Economic scale
2.	The study of manufacturing of chemical compounds on commercial scale is called.	Organic chemistry	Industrial chemistry	Environmental chemistry	Nuclear chemistry
3.	Which one the following element is found in much abundance in earth's crust.	Oxygen	Aluminium	Silicon	Iron
4.	The number of naturally occurring elements is.	92	98	108	114
5.	Mass of electron is.	$1.672 \times 10^{-24}$ kg	$1.672 \times 10^{-24}$ g	$9.106 \times 10^{-28}$ kg	$9.106 \times 10^{-8}$ g
6.	Which of the following is a molecular mass of O <sub>2</sub> in amu.	32 amu	$1.92 \times 10^{-25}$ amu	$53.12 \times 10^{-24}$	$192.64 \times 10^{-25}$ amu
7.	Empirical formula of glucose is.	CH <sub>2</sub> O	CHO	C <sub>2</sub> HO	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> O
8.	Molecular mass of water is.	18 amu	18 g	18mg	18 kg
9.	The molecular mass of H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> is.	98 g	98 amu	9.8 g	9.8 amu
10.	The removal of electron from an atom give rise to.	Cation	Anion	Molecule	Molecular ion
11.	All of the following are triatomic molecules except.	H <sub>2</sub>	O <sub>3</sub>	H <sub>2</sub> O	CO <sub>2</sub>
12.	How much mass in one mole of water?	2	3	16	18

	A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D					
1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	4	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	7	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	10	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	13	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	5	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	8	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	11	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	14	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	6	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	9	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	12	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	15	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

نوٹ: معروضی سوال نامے کو توجہ سے پڑھیں اور ہر MCQ کی درست آپشن A, B, C, D کو بچھن کی سیانی یا مار کر سے اس طرح پھر کریں کہ سیانی دائرے سے باہر نہ نکلے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پھر کرنے یا کاٹ کر پھر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

www.ilmkidunya.com